



Forty Ahadith

Masjid Al-Aqsa

ISMAIL PATEL

Copyright © Al-Aqsa Publishers 2015/1436 H

Published by Al-Aqsa Publishers, PO Box 5127,
Leicester, LE2 0WU, United Kingdom
Tel: +44 (116) 212 5441

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form by any means, electronic or otherwise, without written permission from the publishers.

ISBN 0-9536530

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٧﴾

Glory to Allah Who did take His servant on a journey by night from the Sacred Mosque in Makkah) to the Mosque of Al-Aqsa (in Jerusalem). Whose precincts We did bless. That We may show him some of Our signs. Indeed He alone is All-Hearing, All-Seeing.

(Al-Isra', 17:1)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣١﴾

You have indeed in the Apostle of Allah a beautiful example (conduct) for anyone whose hope is in Allah and the Final Day and who engages much in the praise of Allah.

(Al-Ahzab, 33:21)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
أَعْمَالَكُمْ

O you who believe! Obey Allah and obey the Apostle and make not vain your deeds.

(Muhammad, 47:33)

'Umar ibn al-Khattab ؓ reported that the Prophet ﷺ said, "The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get rewarded according to what he has intended..."

Sahih al-Bukhari

Ibn Mas'ud ؓ reported that the Prophet ﷺ said, "Allah brightens a man who hears what I say, gets it memorised, retains it and passes it on to others".

Tirmidhi



Introduction

Of all the symbols of Islam, the most neglected in our time is Masjid al-Aqsa, in Jerusalem. For various reasons, ranging from political compromise to appeasement, the Ummah has ignored not only the virtues but also the plight of this Holy Site.

It is with the intention to rekindle the love, affection and devotion of Muslims to Masjid al-Aqsa that I have compiled this small booklet of 40 ahadith. Since the Prophet Muhammad ﷺ showed such great concern for it and inculcated into the Companions the need to liberate Masjid al-Aqsa and Jerusalem I hope we can adorn the teachings of our Noble Prophet ﷺ and take the urgent practical step required to safeguard Masjid al-Aqsa

Masjid al-Aqsa is no ordinary Masjid; it forms the basis of our history and is the cornerstone of mankind's foundation. The Noble Prophet ﷺ dedicated a great deal of his life nurturing the Companions to appreciate the excellent qualities of Masjid al-Aqsa and prepared them to embark on an expedition to liberate Jerusalem which at the time was in the hands of the mighty Roman empire.

Some of the reasons why Masjid al-Aqsa should form an important aspect of a believer's dedication, and the reason why many pious individuals have given their wealth and lives, include the fact that Masjid al-Aqsa is:

1. the first qiblah for Muslims;
2. the station of al-Isra' and al-Mi'raj;
3. the second house of Allah built on earth;
4. the place where hundreds of Messengers of Allah ﷺ are buried;
5. the place where many Companions are buried;
6. a place where miracles were shown by Allah's will;
7. a place which Allah ﷻ Himself calls a '*blessed place*';
8. referred to directly and indirectly, seventy times in the Holy Qur'an;

9. the place where angels have descended with Allah's message;
10. the only place on earth where all the Messengers of Allah prayed at the same time led by the Prophet Muhammad ﷺ;
11. the only Masjid mentioned by name in the Holy Qur'an apart from the Ka'bah.

It is for the above reasons and many more that we need to understand our responsibilities regarding safeguarding the Masjid al-Aqsa which is in great danger of being demolished by Israeli extremists.

The revival of this aspect of sunnah is urgently needed and I pray that the Almighty Allah ﷻ gives me and all my friends and colleagues the courage to direct our effort and energy to ensure that the historical legacy of Masjid al-Aqsa which we have inherited from the efforts and sacrifices of our predecessors is passed on to the next generation.

I pray that we can all reflect on the following verses of the Holy Qur'an for our guidance, Ameen.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ... ﴿١١﴾

Verily never will Allah change the condition of a people until they change themselves.

(al-Ra'd, 13:11)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Because Allah will never change the grace which He had bestowed on a people until they change what is in their (own) souls and verily Allah is He Who hears and knows all things.

(al-Anfal, 8:53)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

The believers are only those who believe in Allah and His Messenger and have never doubted and who strive with their belongings and their persons in the Cause of Allah: such are sincere.

(al-Hujurat, 49:15)

Ismail Patel

Leicester, England
February 2015

Masjid al-Aqsa – The Second House of Allah on Earth

[1]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ أَيُّمَا أَدْرَكْتَنكَ الصَّلَاةُ بَعْدَ فَصَلَّتْهُ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ. (البخاري)

مسجد اقصیٰ، دُنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے پُرانی مسجد

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! کہہ ارض پر سے سب سے پہلی مسجد کونسی تھی؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا پھر (اس کے بعد) کونسی؟ آپ ﷺ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس سال، مزید یہ کہ جہاں کہیں نماز کا وقت تمہیں پالے وہیں نماز پڑھ لینا اس لئے کہ فضیلت اسی میں ہے (بخاری)

Abu Dharr رضی اللہ عنہ reported that he asked the Prophet ﷺ, “O Messenger of Allah, which *masjid* was built first on earth?” The Prophet ﷺ replied, “The Sacred Masjid of Makkah.” Abu Dharr again asked, “Which was next?” The Prophet ﷺ said, “The Masjid al-Aqsa.” Abu Dharr رضی اللہ عنہ further asked, “How long was the period between the building of the two *masajid*?” The Prophet ﷺ said, “Forty years.” Apart from these, offer your prayers anywhere when it is time to pray, as excellence lies in it.” (Al-Bukhari)

The Importance of Visiting Masjid Al-Aqsa

[2]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى. (مسلم و أبو داود واللفظ لأبي داود)

مسجد اقصیٰ کی زیارت کی اہمیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خصوصیت کیساتھ تین مساجد کے علاوہ کسی اور طرف (عبادت میں زیادہ فضیلت حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ) سفر نہ کیا جائے (۱) مسجد حرام (۲) میری یہ مسجد (مسجد نبوی) اور (۳) مسجد اقصیٰ۔ (مسلم و ابو داؤد)

Abu Hurayrah رضی اللہ عنہ relates that the Prophet ﷺ said, "You should not undertake a special journey to visit any place other than the following three *masajid* (with the expectation of receiving greater reward); the Sacred Masjid of Makkah (Ka'bah), this *masjid* of mine (the Prophet's Masjid in Madinah), and Masjid al-Aqsa (of Jerusalem)." (*Muslim*)

The Virtues of Performing Salah in Masjid al-Aqsa

[3]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى غَيْرِهِ مِائَةٌ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِي أَلْفِ صَلَاةٍ، وَفِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ مِائَتَيْ صَلَاةٍ (البيهقي في شعب الإيمان)

مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا ثواب

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا اس کے علاوہ (مساجد) سے ایک لاکھ درجہ فضیلت رکھتا ہے اور میری مسجد میں ایک ہزار نماز اور مسجد اقصیٰ میں پانچ سو (۵۰۰) نماز کے برابر ہے۔ (بیہقی)

Abu Darda' رضی اللہ عنہ relates that the Prophet ﷺ said, "The reward of a prayer in al-Masjid al-Haram (Makkah) over other *masajid* is equivalent to 100,000 Salah (in reward), a prayer in my *masjid* (Madinah) is equivalent to 1,000 Salah and a Salah in Bayt al-Maqdis (al-Aqsa Sanctuary) is equivalent to 500 Salah." (*Al-Bayhaqi*)

[4]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلَافًا ثَلَاثَةً: سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأُوتِيَهُ، وَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيْثُ فَرَعَ مِنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُ أَحَدٌ إِلَّا يَنْهَهُهُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يُجْرِحَهُ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وُلِدَتْهُ أُمُّهُ. (النسائي)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے تین خصلتیں مانگیں (۱) ایسی قوت فیصلہ جو حکم الہی کے مطابق ہو، وہ ان کو عطا کی گئی (۲) اور ایسی حکومت جو ان کے بعد کبھی کسی کو عطا نہ ہو، وہ بھی ان کو عطا کی گئی اور جب آپ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دُعا مانگی کہ جس شخص کو یہاں آنے پر نماز ہی نے آمادہ کیا ہو، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر نکلے جیسے اس کی ماں نے اُسے آج ہی جنا ہو۔ (نسائی)

'Abdullah ibn 'Amr رضی اللہ عنہ related that the Prophet ﷺ said, "When Sulayman ibn Dawud رضی اللہ عنہ constructed Bayt al-Maqdis, he asked Allah three things. He asked Allah adjudication in line with his ruling, which he was given. He asked Allah for an empire which cannot be attained by anybody after him, which he was given, and he asked Allah, when he completed the construction of Masjid al-Aqsa, that whoever comes solely to perform Salah in this masjid He forgives his sins, leaving him like the day his mother gave birth to him." (Al-Nasa'i)

The Status of the Callers of Adhan in Masjid al-Aqsa

[5]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَيُّ الْخَلْقِ أَوَّلُ دُخُولِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: الشُّهَدَاءُ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤَدِّئُو الْكَعْبَةِ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤَدِّئُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ مُؤَدِّئُو مَسْجِدِي هَذَا قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: سَائِرُ الْمُؤَدِّئِينَ عَلَيَّ قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ. (الطبقات الكبرى لابن سعد)

مسجد اقصیٰ میں اذان دینے والوں کی فضیلت

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ! ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام۔ پھر کون اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا شہداء کرام۔ انہوں نے پوچھا پھر کون اے اللہ کے نبی ﷺ!؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کعبۃ اللہ کے اذان دینے والے۔ سائل نے پوچھا پھر کون؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ میں اذان دینے والے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا پھر کون اے اللہ کے نبی ﷺ!؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد میں اذان دینے والے۔ اس شخص نے پوچھا اس کے بعد کون اے اللہ کے نبی ﷺ!؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا پھر تمام دوسرے اذان دینے والے اپنے اعمال کے بقدر۔ (طبقات کبریٰ)

Jabir رضی اللہ عنہ relates that the Prophet of Allah ﷺ was asked, "Who will enter Paradise first?" The Prophet ﷺ replied, "The Prophets." The man then asked, "Who next O Prophet of Allah?" The Prophet ﷺ replied, "The martyrs." The man then asked, "Who next O Prophet of Allah?" The Prophet ﷺ replied, "The callers of Adhan at the Ka'bah." The man then asked, "Who next O Prophet of Allah?" The Prophet ﷺ replied, "The callers of the Adhan at Bayt al-Maqdis." The man then asked, "Who next O Messenger of Allah?" The Prophet ﷺ replied, "The callers of the Adhan at my masjid." The man then asked, "Who next?" The Prophet ﷺ replied, "The rest of the callers of the Adhan according to their deeds."

(Al-Tabaqat al-Kubra)

The Virtues of Performing I'tikaf in Masjid al-Aqsa

[6]

عَنْ حَدِيثِ ابْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا إِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ النَّبِيِّ، وَالْمَسْجِدِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ.
(البيهقي في السنن الكبرى)

مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کی فضیلت

حضرت حدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف صرف تین مساجد میں کامل فضیلت رکھتا ہے۔ (۱) مسجد حرام (۲) مسجد نبوی (۳) مسجد اقصیٰ۔ (بیہقی)

Hudhayfah ibn al-Yaman رضی اللہ عنہ reports that the Messenger of Allah ﷺ said, "The most superior I'tikaf (seclusion) is that of three *masajid*: al-Masjid al-Haram (in Makkah), the Masjid of the Prophet (in Madinah), and the Masjid of Bayt al-Maqdis (in Jerusalem)." (*Al-Bayhaqi*)

The Virtue of Donating to Masjid al-Aqsa

[7]

عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
قَالَ: أَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ إِتْتَوُهُ فَصَلُّوا فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ. قُلْتُ:
أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَحْمَلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَتُهْدِي لَهُ زَيْتًا يُسْرُخُ فِيهِ، فَمَنْ فَعَلَ فَهُوَ كَمَنْ أَتَاهُ.
(ابن ماجه)

مسجد اقصیٰ پر خرچ کرنے کی فضیلت

حضرت ميمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (جو نبی اکرم ﷺ کی آزاد کردہ باندی تھی) سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلا دیجئے (حکم دیدیجئے)۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ یہ جمع ہونے اور دوبارہ اٹھنے کی زمین ہے وہاں جاؤ پھر اس میں نماز ادا کرو اس لئے کہ وہاں ایک نماز پڑھنا اس کے علاوہ میں ایک ہزار نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ میں نے دریافت کیا بتلائیے اگر میں وہاں پہنچنے کی طاقت نہ رکھوں آپ ﷺ نے فرمایا وہاں کیلئے تیل بھیجنا کہ اس کے چراغوں میں جلا یا جائے اس لئے کہ جس نے اتنا بھی کر لیا تو وہ اُس شخص کی طرح ہوگا جس نے وہاں حاضری دی (ابن ماجہ)

Maymunah رضی اللہ عنہا relates that she said, “O Messenger of Allah, inform us about (visiting) Bayt al-Maqdis (Jerusalem)”. He said, “It is the land of gathering (*al-mahshar*) and resurrection (*al-manshar*), visit it and pray there, as one Salah performed there is equivalent to a thousand Salahs performed elsewhere.” She further asked, “What about the one who doesn’t have the capacity to travel to Jerusalem?” He replied, “Then send some oil to be used in its lamps, as the one who sent oil to be used in its lamps will be like the one who performed Salah there.” (*Ibn Majah*)

The Virtue of Entering the State of Ihram from Masjid al-Aqsa

[8]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ "وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". شَكََّ عَبْدُ اللَّهِ أَيُّهُمَا قَالَ. (أبو داود)

مسجد اقصیٰ سے احرام باندھنے کی فضیلت

نبی اکرم ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے مسجد حرام جانے کے لئے حج یا عمرہ کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔ یا یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ (جنت کا داخلہ یقینی ہو گیا) حدیث کے راوی عبد اللہ کو شک ہو گیا کہ ان دو فضیلتوں میں سے آپ نے کونسی فرمائی۔ (ابوداؤد)

Umm Salamah رضی اللہ عنہا, the wife of the Prophet ﷺ, relates that she heard the Messenger of Allah ﷺ saying, "If anyone enters into the state of Ihram for Hajj or Umrah from Masjid al-Aqsa and then proceeds to the Sacred Masjid, his former and latter sins will be forgiven" or "he is guaranteed paradise." The narrator 'Abdullah رضی اللہ عنہ was not sure which words were said. (Abu Dawud)

The Blessed Land of al-Sham*

[9]

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّفُ - أَيَّ
بَجْمَعُ - الْقُرْآنَ مِنَ الرَّقَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِلشَّامِ. فَمَلَأْنَا: لِأَيِّ
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا. (الترمذي)

شام کا بابرکت علاقہ

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول ﷺ کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کے رقعے اکٹھا کر رہے تھے کہ اس درمیان اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا علاقہ شام کے لئے بڑی خوشیاں ہیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! یہ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لئے کہ رحمن کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ (ترمذی)

Zaid ibn Thabit رضی اللہ عنہ reported: We were with Allah's messenger ﷺ composing transcripts of the Qur'an on parchments. He said, "Blessed is al-Sham." We asked: "Why is that so, O Messenger of Allah?" He said, "Because the angels of the Compassionate One have spread their wings over it." (*Al-Tirmidhi*)

* Al-Sham, today includes Lebanon, Syria, Jordan and Palestine.

[10]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ الشَّامُ،
 وَفِيهَا صَفْوَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ، وَلَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي ثَلَاثَةٌ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ.
 (الطبراني في المعجم الكبير)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شام کی سرزمین اللہ تعالیٰ کی منتخب
 سرزمین ہے اور اسی میں اللہ کی منتخب مخلوق اور بندے رہتے ہیں۔ اور ضرور بالضرور میری امت کا ایک بڑا گروہ بغیر حساب
 اور سزا کے جنت میں داخل ہوگا (طبرانی)

Abu Umamah رضی اللہ عنہ reports that the Messenger of Allah ﷺ said, "The chosen land of Allah is al-Sham. He has therein his chosen creation and servants. Most definitely, a large group from my Ummah will enter Paradise without having to give reckoning or experiencing any form of punishment."
 (Al-Tabarani)

[11]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حِزِّي لِي بَلَدًا أَكُونُ فِيهِ فَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَبْقَى لَمْ أَحْتَرَّ عَلَى قَرِيْبِكَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ ثَلَاثًا. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِرَاهِيَتَهُ إِيَّاهَا قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا يُعْمَلُ اللَّهُ فِي الشَّامِ؟ إِنَّ اللَّهَ يُعْمَلُ: يَا شَامُ! أَنْتِ صَمْعُوتِي مِنْ بِلَادِي أُدْخِلُ فِيكَ خَيْرِي مِنْ عِبَادِي. (الطبراني في مسند الشاميين)

حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ میرے لئے کوئی شہر منتخب فرمادیں جہاں میں رہوں اس لئے کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں تب میں کسی اور جگہ کو پسند نہیں کر سکتا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم ضرور شام میں رہنا، تین مرتبہ یہ بات دہرائی پھر جب نبی اکرم ﷺ نے ان کی اس جواب سے گرانی دیکھی تو فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یقین جانو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میری تمام زمین میں سے منتخب زمین ہے میں تجھ میں اپنے بہترین بندوں کو داخل کروں گا (رہنے دوں گا) (طبرانی)

'Abdullah ibn Hawalah رضی اللہ عنہ reports that he said, "O Messenger of Allah, choose for me a place where I should be, for if I were to know that you are staying I would not have chosen any place over you." He رضی اللہ عنہ said three times, "You must go to al-Sham." When He رضی اللہ عنہ noticed Ibn Hawalah's indifference towards it, he said, "Do you know what Allah says about al-Sham? Allah said, 'O Sham! You are the quintessence of My lands (*safwati min biladi*) and I shall inhabit you with the chosen ones among My servants.'" (*Al-Tabarani*)

[12]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَلَا أَمْنُ بِالشَّامِ.
(الطبراني في المعجم الكبير)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے واقع ہوں گے اس وقت امن شام میں ہوگا (طبرانی)

'Abdullah ibn 'Amr ؓ reported that the Prophet ﷺ said, "When *fitna* (great tribulations at the end of time) befalls, safety will be in al-Sham."
(*Al-Tabarani*)

[13]

عَنْ ابْنِ حَوَالَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَصِيرُ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدًا بِالشَّامِ وَجُنْدًا بِالْيَمَنِ وَجُنْدًا بِالْعِرَاقِ. قَالَ ابْنُ حَوَالَةَ: خِرَ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ. فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ فَإِنَّهَا خَيْرُهَا اللَّهُ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إِلَيْهَا خَيْرَتَهُ مِنْ عِبَادِهِ فَأَمَّا إِنْ أَبَيْتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيَمَنِكُمْ وَاسْتَمُوا مِنْ عُذْرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَكَّلْ لِي بِالشَّامِ وَأَهْلِهِ. (أبو داود)

حضرت ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کچھ عرصہ کے بعد ایسی حالت ہو جائیگی کہ تم الگ الگ تین لشکروں میں بٹ جاؤ گے ایک لشکر شام میں ہوگا ایک یمن میں اور ایک عراق میں ہوگا ابن حوالہ نے دریافت کیا کہ آپ ہی میرے لئے کوئی ایک پسند فرمادیں اے اللہ کے رسول ﷺ، اگر میں اس وقت کو پاؤں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم شام چلے جانا اس لئے کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے۔ اسی کی طرف اپنے پسندیدہ بندوں کو بھیج لیتا ہے لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر یمن چلے جانا اور اپنے ہی تالاب سے پینا اس لئے کہ شام اور اس کے باشندوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ضمانت دی ہے (ابوداؤد)

'Abdullah ibn Hawalah رضی اللہ عنہ reports that the Messenger of Allah ﷺ said, "At some point you will be [split into] standing armies (groups): one in al-Sham, one in Yemen and one in Iraq." 'Abdullah ibn Hawalah asked the Prophet ﷺ "Choose for me, Messenger of Allah, in case I live to see that day." The Prophet ﷺ replied, "Go to al-Sham, for it is the chosen land of Allah in all His earth. He attracts the chosen ones among His servants by sending them there. If you do not wish to go there, then go to Yemen and drink from its water. Allah has given me a guarantee concerning al-Sham and its people." (Abu Dawud)

Masjid al-Aqsa – The First Qiblah

[14]

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ
أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ صَرَفَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (متفق عليه واللفظ للبخاري)

مسجد اقصیٰ پہلا قبلہ

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ۱۶ یا ۱۷
مہینوں تک نماز ادا کی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیا (بخاری و مسلم)

Al-Bara' رضی اللہ عنہ narrates, "We prayed along with the Prophet ﷺ facing Bayt al-Maqdis (Jerusalem) for sixteen or seventeen months. Then Allah ordered him to turn his face towards the Ka'bah (in Makkah)."

(Al-Bukhari and Muslim)

[15]

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلْتَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّه صَلَّى أَوْ صَلَّى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَسْجِدِ وَهُمْ رَاكِعُونَ. قَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ. فَذَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. وَكَانَ الَّذِي مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ رَجُلًا قُتِلُوا لَمْ نَدْرِ مَا تَعُولُ فِيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ) (البخاري)

حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ۱۶ یا ۱۷ مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی حالانکہ آپ ﷺ خود کعبہ کی طرف قبلہ ہونا پسند فرماتے تھے۔ (کعبہ کی طرف قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد) آپ ﷺ نے عصر کی نماز ادا کی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت نے بھی ادا کی۔ پھر (نماز کے بعد) ان میں سے ایک صحابی ایک مسجد کے پاس سے گزرے جس میں مسجد والے رُکوع ہی میں تھے کہ اس صحابی نے اعلان کیا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر کے آیا ہوں ان حضرات نے اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ بعض حضرات ایسے تھے جن کا انتقال قبلہ بدلنے سے پہلے ہو چکا تھا وہ لڑائی میں شہید ہو چکے تھے ہمیں علم نہ تھا کہ ان کے بارے میں کیا کہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ) کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بے انتہا نرم اور رحمت والا ہے۔ (سورہ بقرہ آیت ۱۴۳) (بخاری)

Al-Bara' رضي الله عنه reported that the Messenger of Allah ﷺ prayed facing Jerusalem for sixteen or seventeen months. He desired that the direction of praying be towards the Sacred House (Ka'bah). He performed 'Asr with a group of people. Then one of the men who had prayed with him left and passed by some people in a *masjid* who were bowing (in ruku'). He remarked, "I testify by Allah that I prayed with the Prophet ﷺ facing Makkah." They immediately turned towards the House. Some men had died or had been martyred before the Qiblah changed towards the Sacred House. We did not know what to say about them (and the acceptance of their prayers). Then Allah sent down, "Allah would not let your belief go to waste. Allah is All-Gentle, Most Merciful to mankind." (2:143) (Al-Bukhari)

Masjid al-Aqsa - The Station of al-Isra' wa al-Mi'raj

[16]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْلَةَ أُسْرِي بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ صَرَبٌ رَجُلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رُبْعَةٌ أَحْمَرٌ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِنْ دِعَاسٍ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدَ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الْآخَرَ حَمْرٌ. فَقَالَ: اشْرَبْ أَيُّهُمَا شِئْتَ. فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ فَقِيلَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْحَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ. (البخاري)

مسجد اقصیٰ - اسراء و معراج کا مقام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا معراج کی رات کو میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ (اعتدال کیساتھ) ہلکے جسم والے، لٹکے ہوئے بال ہلکے پیچ لئے ہوئے گویا کہ قبیلہ شنوءہ کے مرد کی طرح، اور میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا وہ درمیانی قد کے اور رنگ سُرخ مائل گویا کہ گرم غسل خانہ سے ابھی نکلے ہوں، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرے سامنے دو برتن پیش کئے گئے ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب اور کہا گیا کہ ان دو میں سے جو آپ چاہیں پی لیں میں نے دودھ لے کر پی لیا اس پر مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اپنایا اگر آپ نے شراب لی ہوتی تو آپ کی امت ہلاک ہو جاتی۔ (بخاری)

Abu Hurayrah رضی اللہ عنہ related that the Messenger of Allah ﷺ said, "On the night in which I was taken on the journey, I saw Musa رضی اللہ عنہ. He was slim with wavy hair. He resembled the men of Shanu'a. I saw 'Isa رضی اللہ عنہ. He was a man of medium height with red complexion, as if he had stepped out of the bath. I am the closest of the children of Ibrahim رضی اللہ عنہ in resemblance to him. Then I was brought two vessels, one containing milk and the other wine. He said, 'Drink whichever one you wish.' I took the milk and drank it. It was said, 'You have taken the *fitrah*. If you had taken the wine, your Ummah would have erred.'" (Al-Bukhari)

[17]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) قَالَ: هِيَ رُؤْيَا عَيْنِ أَرِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) قَالَ: هِيَ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (البخاري)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ) اور وہ دکھلاوا (اسراء و معراج) جو ہم نے آپ کو دکھلایا لوگوں کو جانچنے کے لئے تھا۔ سورہ الاسراء آیت ۶۰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دکھلانا آنکھوں دیکھی حقیقت تھی جو اللہ کے رسول ﷺ کو دکھلایا گیا اُس رات جب آپ ﷺ کو معراج میں بیت المقدس لے جایا گیا۔ آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اسی آیت کریمہ میں (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) سے مُرد زقوم کا درخت ہے۔ (بخاری)

Ibn 'Abbas رضی اللہ عنہما said regarding the statement of Allah in the Holy Qur'an "And we did not make the vision (ascension to the heavens) we showed to you, but a test for the people" (17:60), "The sights which Allah's Messenger was shown on the Night Journey when he was taken to Bayt al-Maqdis (i.e. Jerusalem) were actual/real sights, (not dreams). "And the Cursed Tree (mentioned) in the Qur'an." He said, "This is the tree of Zaqqum* (itself)." (Al-Bukhari)

* A tree that will grow in Jahannum and the bitter fruit of which the dwellers of hell will eat.

[18]

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمَّا كَذَّبْتَنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمُقَدَّسِ فَطَفَّقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ. (البخاري)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قریش نے مجھے ٹھٹھلایا (تو ایک دن) میں حطیم میں کھڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں اُن کو ساری نشانیاں دیکھ کر بتانے لگا (بخاری)

Jabir ibn 'Abdullah رضی اللہ عنہ relates that the Prophet ﷺ said, "When the people of Quraysh did not believe me (i.e. the story of my Night Journey), I stood up in al-Hijr (the Hatim) and Allah ﷻ displayed Bayt al-Maqdis (Jerusalem) in front of me, and I began describing its landmarks as if I was looking at it."
(Al-Bukhari)

[19]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَمُودًا أَبْيَضَ كَأَنَّهُ لُؤْلُؤَةٌ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. قُلْتُ: مَا تَحْمِلُونَهُ؟ قَالَ: عَمُودَ الْإِسْلَامِ أَمْرْنَا أَنْ نَضَعَهُ بِالشَّامِ. وَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ رَأَيْتُ الْكِتَابَ اخْتَلَسَ مِنْ تَحْتِ وَسَادَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَخَلَّى مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَتْبَعْتُهُ بَصْرِي فَإِذَا هُوَ نُورٌ بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّى وُضِعَ بِالشَّامِ. فَمَنْ أَبِي فَلْيَلْحَقْ بِيَمِينِهِ وَلْيَسْتَقِ مِنْ عُذْرِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي بِالشَّامِ. (الطبراني في مسند الشاميين)

حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسرائیلی رات کو ایک سفید ستون دیکھا جو موتی کی طرح تھا، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے تھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیا اٹھا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اسلام کا ستون ہے ہمیں حکم ہوا ہے کہ اسے ملک شام میں رکھ دیں۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کتاب کو میرے تکیہ کے نیچے سے اچک لیا گیا میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو چھوڑ تو نہیں دیا میں نے اپنی نگاہیں اُس کے پیچھے دوڑائیں تو وہ میرے سامنے نور بن گیا یہاں تک کہ اسے ملک شام میں رکھ دیا گیا لہذا (اس وضاحت کے بعد) جو زمانے وہ چاہے یمن میں رہے اور اس کے تالاب سے سیراب ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کی کفالت دے دی ہے۔ (مسند شامیین)

'Abdullah ibn Hawalah رضی اللہ عنہ reports that the Messenger of Allah ﷺ said, "I saw on the night of al-Isra' wa al-Mi'raj (the Night Journey) a white column resembling a pearl, which the angels were carrying. I asked them, 'What are you carrying?' They replied, 'The Column of (the Book of) Islam. We have been ordered to place it in al-Sham.' Whilst in my sleep, I saw the Book being taken away from under my headrest. I began to fear lest Allah the Almighty had abandoned the people of the earth. My eyes followed the Column of the Book. It was a brilliant light in front of me. Then I saw it was placed in al-Sham. Whoever cannot (go to al-Sham), let him go to Yemen, and let him drink from its water, for Allah has assured (secured) for me al-Sham." (Al-Tabarani)

[20]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُتَيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ أبيضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَعْلِ يَصْغُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ. قَالَ: فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ: فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْتَبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ. (مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے بُراق لایا گیا جو ایک لمبے قد اور سفید رنگ کا جانور ہے، جو گدھے سے کسی قدر بڑا لیکن چتر سے کچھ چھوٹا ہے۔ (اسکی رفتار کا یہ عالم تھا کہ) وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچا پھر اس کو اسی کڑے کے ساتھ باندھا جسکے ساتھ گزشتہ انبیاء علیہم السلام باندھا کرتے تھے پھر میں نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کی (مسلم)

Anas ibn Malik رضی اللہ عنہ relates that the Prophet ﷺ said, "I was brought the Buraq, a tall white beast, larger than a donkey but smaller than a mule. It could place its hooves at the farthest boundary of its gaze. I mounted it until I arrived at Bayt al-Maqdis. I tied it to the ring to which the Prophets tied it before (i.e. the Buraq Wall or Western Wall). I entered Masjid al-Aqsa Sanctuary and prayed Salah (two rak'ah there)." (Muslim)

[21]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ يَوْمًا: إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ فِي الْمَنَامِ أَخَذُوا عَمُودَ الْكِتَابِ فَعَمَدُوا بِهِ إِلَى الشَّامِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنُ فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالشَّامِ. (فضائل الشام ودمشق)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دن ہمیں ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا کہ انہوں نے کتاب کے ستون کو اٹھایا ہوا تھا اور اُسے شام کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب بڑے فتنوں کا ظہور ہوگا اس وقت ایمان شام کے اندر ہوگا۔ (فضائل شام)

'Abdullah ibn 'Umar رضی اللہ عنہما said that the Prophet ﷺ said to us one day, "I saw angels in my dream who had taken hold of the Column (governance) of the Book and proceeded with it to al-Sham. When the great tribulation befalls, *iman* (belief) will be in al-Sham." (*Fadhail al-Sham*)

Some Great Prophecies of the Prophet ﷺ

[22]

عَنْ ذِي الْأَصَابِعِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَيْنَا بَعْدَكَ بِالْبَقَاءِ أَيَّنَ تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَلْعَلَهُ أَنْ يَنْشَأَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ يَعُدُّونَ إِلَى ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيُرْوَحُونَ. (أحمد)

نبی اکرم ﷺ کی چند عظیم پیشین گوئیاں

حضرت ذی الاصابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! اگر ہم آپ کے بعد زندہ رہیں تو آپ ہمیں کہاں کا حکم فرماتے ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم بیت المقدس چلے جانا۔ امید ہے کہ تمہاری ایسی نسل پیدا ہو جو اُس مسجد میں صبح شام جایا کرے۔ (احمد)

Dhu'l-Asabi' ﷺ reported that he asked the Prophet ﷺ, "O Messenger of Allah! Where do you instruct us to go if we are unfortunate to remain behind after your passing away?" The Prophet ﷺ replied, "Go to Bayt al-Maqdis. Perhaps you will have offspring who will go to that *masjid* day and night." (Ahmad)

[23]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي
أَوْ قَالَ عَلَى هَامِي ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ تَرَكْتَ أَرْضَ الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَّتْ
الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابُ وَالْأُمُورُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَذِهِ مِنْ رَأْسِكَ.
(أبو داود)

حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا
پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابن حوالہ! جب تم دیکھو کہ ارض مقدس میں خلافت آچکی تو یقین جانو کہ زلزلے، پریشانیاں اور بڑے
بڑے حادثے قریب آچکے، اور اس وقت قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہوگی جتنا میرا ہاتھ آپ کے سر سے۔
(ابوداؤد)

'Abdullah ibn Hawalah al-Azdi رضی اللہ عنہ reported, the Messenger of Allah ﷺ put his hand on my head and said, "Ibn Hawalah! If you see that the Caliphate has taken abode in the Holy Land then the earthquakes, chaos and great events are at hand. The Last Hour on that day will be closer to people than my hand is to your head." (Abu Dawud)

[24]

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ أَوْ مِنْ نَحْوِ بَحْرِ حَضْرَمَوْتٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تَحْشُرُ النَّاسَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ. (الترمذي)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضرموت یا حضرموت کے دریا سے ایک عظیم آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو جمع کر دے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! اُس وقت کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم شام چلے جانا۔ (ترمذی)

Saalim ibn 'Abdullah ibn 'Umar رضی اللہ عنہ reports from his father that the Prophet ﷺ said, "A huge fire will emerge from Hadramawt or (he said) from the direction of the sea of Hadramawt before the Day of Resurrection which will cause a great movement of people." The Companions asked, "O Messenger of Allah what do you order us to do at that time?" He ﷺ replied, "You must go to al-Sham." (*Al-Tirmidhi*)

Masjid al-Aqsa – The Place for Major Events Near Qiyamah

[25]

عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَالَ
بِبَابِ لُدٍّ. (الترمذي وأحمد)

مسجد اقصیٰ - قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں واقع ہونے کی جگہ
حضرت مجمع ابن جاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ابن مریم علیہ
السلام دجال کو باب لُد (فلسطین کا ایک شہر ہے) کے مقام پر قتل کریں گے۔ (ترمذی، احمد)

Mujammi' ibn Jariyah رضی اللہ عنہ reported having heard the Messenger of Allah ﷺ say, "Ibn Maryam (Isa) will kill al-Dajjal (the Anti-Christ) at the door of Ludd." (Al-Tirmidhi and Ahmad)



[26]

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ الْأَزْدِيِّ قَالَ: أَتَيْتُنَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُحَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّاسِ فَشَدَّدْنَا عَلَيْهِ. فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: أَنْذَرْتُكُمْ الْمَسِيحَ وَهُوَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ الْيَسْرِيُّ يَسِيرُ مَعَهُ جِبَالُ الْخَبَرِ وَأَنْهَارُ الْمَاءِ عَلَامَتُهُ يَمُكُّ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ لَا يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ وَالْمَسْجِدَ الْأَقْصَى وَالطَّوْرَ وَمَهْمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ قَالَ يُسَلِّطُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ وَلَا يُسَلِّطُ عَلَى غَيْرِهِ. (أحمد)

حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول ﷺ سے بلا واسطہ سنی ہوئی حدیث سنائے نہ کہ کسی دوسرے سے سنی ہوئی بات، اور ہم نے ان پر اصرار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں جھوٹے مسیح کے بارے میں خبر دار کرنا (ڈرانا) چاہتا ہوں اور یہ کہ وہ کانا ہے راوی نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زمین میں چالیس دن رہیگا، اس کی حکومت (سلطنت) ہر جگہ تک پہنچ کر رہے گی سوائے چار مسجدوں کے۔ کعبہ (مسجد حرام)، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور طور سیناء کی مسجد۔ جو کچھ بھی ہو جائے یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ (کانا) ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک آدمی کے اوپر اختیار دیا جائیگا جسے وہ قتل کرے گا اور پھر اُسے دوبارہ زندہ کرے گا پھر اُسے کسی اور کے اوپر اختیار نہیں دیا جائیگا۔ (احمد)

Junadah ibn Abi Umayyah al-Azdi said, "We visited a man from among the Companions of the Messenger of Allah ﷺ in Madinah and said to him, "Tell us something that you have heard directly from the Messenger of Allah ﷺ. Do not narrate something which you have heard from others.' We persisted in asking him. He said, 'The Messenger of Allah ﷺ stood amongst us and said, 'I warn you of the Dajjal (Anti-Christ) who is one-eyed.' He said I think he said his left eye. He will have mountains of bread and rivers of water with him. His sign is that he will stay among you for forty days, his rule will reach every place (on the earth) apart from four *masajid*: Masjid al-Haram (in Makkah), the Masjid of the Messenger, al-Masjid al-Aqsa and the Masjid of Sinai. Irrespective of what happens, know that Allah ﷻ is not one-eyed.' Ibn 'Awn said, 'I think he said that he will be given power over a man whom he will kill and then revive. He will not be given power over anybody else.'" (Ahmad)

[27]

عَنْ هَيْبِ بْنِ صُرَيْمِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُقَاتِلَنَّ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُقَاتِلَ بَقِيَّتُكُمُ الدَّجَالُ عَلَى نَهْرِ الْأُرْدُنِ أَنْتُمْ شَرْقِيَّةٌ وَهُمْ غَرْبِيَّةٌ. (مجمع الزوائد)

حضرت ہیبک بن صریم السکونی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ تم مشرکین سے ضرور لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہارے بقایا لوگ (آخری لوگ) دجال سے لڑیں گے نہر اردن کے اوپر، تم مشرقی جانب اور وہ مغربی جانب ہوں گے۔ (مجمع الزوائد)

Nahik ibn Suraym al-Sakuni relates that the Messenger of Allah ﷺ said, "You will most definitely fight the pagans until those remaining of you will fight Dajjal by the River Jordan. You will be east of it and they will be to the west of it." (*Majma' al-Zawaid*)



[28]

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابٌ يَثْرِبُ وَخَرَابُ يَثْرِبِ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ فَتُخَفُّ فَتُسَطَّنُطِينِيَّةٌ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ خُرُوجُ الدَّجَالِ. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الَّذِي حَدَّثَهُ أَوْ مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لِحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ يَعْنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (أبو داود)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب یعنی مدینہ کی ویرانی کے وقت ہوگی اور یثرب کی ویرانی جنگ عظیم کے وقت ہوگی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کے وقت ہوگی۔ اور فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کے وقت ہوگا۔ پھر آپ کے اپنے دست مبارک سے ان کی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا یہ بالکل اسی طرح سچ ہے جس طرح تم یہاں پر موجود ہو یا فرمایا جس طرح تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو۔ یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ (ابو داؤد)

Mu'adh ibn Jabal رضی اللہ عنہ relates that the Messenger of Allah ﷺ said, "The flourishing state of Bayt al-Maqdis (Jerusalem) will be when Yathrib is in ruins, the ruined state of Yathrib will be when the great war comes, the outbreak of the great war will be at the conquest of Constantinople and the conquest of Constantinople will be when al-Dajjal (Anti-Christ) comes forth." He (the Prophet ﷺ) struck his thigh or his shoulder with his hand and said: "This is as true as you are here or as you are sitting (meaning Mu'adh ibn Jabal)." (Abu Dawud)

[29]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُخْرَبُ الْأَرْضُ قَبْلَ الشَّامِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً. (تاریخ دمشق لابن عساکر)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (بقیہ) زمین کی بربادی شام کی خرابی سے چالیس سال پہلے واقع ہوگی۔ (تاریخ دمشق ابن عساکر)

'Awf ibn Malik رضی اللہ عنہ reports that the Messenger of Allah ﷺ said, "The rest of the world will be destroyed forty years before al-Sham is." (*Ibn 'Asakir*)



[30]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْلُ الشَّامِ وَأَزْوَاجُهُمْ وَذُرَارِيَهُمْ وَعَبِيدُهُمْ وَإِمَاؤُهُمْ إِلَى مُنْتَهَى الْحَزِيرَةِ مُرَابِطُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ اخْتَلَّ مِنْهَا مَدِينَةً فَهُوَ فِي رِبَاطٍ وَمَنْ اخْتَلَّ مِنْهَا شَعْرًا مِنَ الشُّعُورِ فَهُوَ فِي جِهَادٍ. (تاریخ دمشق لابن عساکر)

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شام کے لوگ اور ان کے بیوی بچے اور ان کے غلام اور باندیاں جزیرہ نما کے اخیر تک اللہ کے راستے کے مرابط ہیں (دشمن کی گھات میں ہیں) پس جس شخص نے بھی وہاں کسی شہر پر قبضہ کر لیا وہ رباط میں ہے (دشمن کی گھات میں ہے) اور جس کسی نے بھی وہاں کی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر قبضہ کر لیا وہ حالت جہاد میں ہے۔ (تاریخ دمشق ابن عساکر)

Abu Darda' رضی اللہ عنہ related that the Messenger of Allah ﷺ said, "From al-Sham to the furthest point of Upper Mesopotamia, the inhabitants therein, along with their wives, children and servants (men and women), are in a state of *ribat* (guarding the Muslim frontier) in the path of Allah. Whoever occupies any land therein is in *ribat*. Whoever occupies any frontier therein from the many frontiers is in Jihad." (*Ibn 'Asakir*)

[31]

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ فَقَالَ: إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَاجِبُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُو حَاجِبِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ قَوَائِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جَوَارِكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ. قُلْنَا: وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: أُرْبِعُونَ يَوْمًا يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٌ وَيَوْمٌ كَشَهْرٌ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. فَعَلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَتْهُ أَنْكَفِينَا فِيهِ صَلَاةً يَوْمٌ وَلَيْلَةً؟ قَالَ: لَا، أَفْذَرُوا لَهُ قَدْرَهُ. ثُمَّ يُنَزَّلُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ فَيُذَرِّكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ. (أبو داود)

حضرت نواس بن سماعان الکلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکلے گا تب تو میں تمہاری طرف سے اُس سے مقابلہ کروں گا اور اگر وہ میری غیر موجودگی میں نکلے گا تو پھر شخص خود اس کا مقابلہ کرے اور اللہ تعالیٰ میرے بعد ہر مسلمان کا نگہبان ہے پس تم میں سے جو شخص اُسے پائے تو اُسے چاہیے کہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ ڈالے کہ یہ آیتیں اس کے فتنے سے تمہاری حفاظت کرنے والی ہیں۔ ہم نے سوال کیا وہ کتنا عرصہ زمین میں (زندہ) رہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا چالیس دن، ایک دن (پہلا دن) ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن (دوسرا دن) ایک مہینہ کے برابر اور ایک دن (تیسرا دن) ایک ہفتہ کے مانند اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہونگے۔ ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول ﷺ ایسے دن جو ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس کے اندر ہمیں صرف ایک دن رات کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، اس کے لئے اندازہ لگا کر نمازیں پڑھ لیا کرو پھر حضرت عیسیٰ بن مریم مشرقی دمشق کے سفید مینارے پر اتریں گے پس اسے (دجال کو) باب لُد کے مقام پر پا کر قتل کر ڈالیں گے۔ (ابوداؤد)

Al-Nawwas ibn Sam'an al-Kilabi رضی اللہ عنہ narrates that the Messenger of Allah ﷺ said, "If the Dajjal comes forth while I am amongst you then I shall dispute with him on your behalf, but if he comes after I am not with you, a man must dispute on his own behalf, and Allah ﷻ will protect every Muslim. Those of you who live up to his time should recite over him the opening verses of *Surah Kahf*, for they are your protection from his trial." We asked, "How long will he remain on the earth?" He replied, "Forty days, one like a year, one like a month, one like a week and the rest of his days like yours." We asked, "Will one day's prayer suffice us in the day which will be like a year?" He replied, "No, you must make an estimate of its extent. Then 'Isa, son of Maryam will descend at the white minaret to the east of Damascus. He will then catch al-Dajjal at the Gate of Ludd and kill him." (Abu Dawud)

[32]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَعْزُوهُمْ، فَاهْرَبِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ نَاوَاهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟ قَالَ: بَيْتِ الْمَقْدِسِ. (الطبراني في المعجم الكبير)

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا جس سے بھی لڑیں گے ان پر غالب آئیں گے، انہیں کسی کی مخالفت سے کوئی بھی نقصان نہیں پہونچے گا یہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس آجائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول ﷺ! یہ لوگ کس جگہ ہوں گے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیت المقدس میں۔ (طبرانی)

Abu Umamah al-Bahili رضی اللہ عنہ reports that the Prophet ﷺ said, "A group of my Ummah will remain on truth, they will vanquish their enemy and those who disagree with them will not be able to harm them until Allah ﷻ Commands." "Where are these people?" The companions asked. The Prophet ﷺ replied, "In Bayt al-Maqdis (Jerusalem)." (Al-Tabarani)

[33]

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّاهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ. (وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: وَهُمْ أَهْلُ الشَّامِ) (أحمد)

عُمیر بن حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اس منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، کسی کی مخالفت اور مدد چھوڑنا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ اس حال میں کہ وہ لوگوں پر غالب ہوں گے۔ (حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ مراد شام کے لوگ ہے) (احمد)

'Umair ibn Hani' mentions that he heard Mu'awiyah ibn Abi Sufyan ﷺ saying on this pulpit that he heard the Messenger of Allah ﷺ saying, "A group from my Ummah will remain upon the truth. Those who desert them or oppose them will not be able to harm them, they will prevail over others until the decree of Allah (Qiyamah) comes." (Mu'adh ibn Jabal ﷺ said, "They are the people of al-Sham.") (Ahmad)

[34]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَيَّ
 أَبْوَابَ دِمَشْقَ وَمَا حَوْلَهُ، وَعَلَى أَبْوَابِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمَا حَوْلَهُ، لَا يَضُرُّهُمْ خِدْلَانُ مَنْ خَدَّهُمْ،
 ظَاهِرِينَ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. (الطبراني في المعجم الكبير)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایک
 جماعت دمشق اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے اطراف میں جنگ کرتی رہے گی رُسا کرنے والوں کی
 رسوائی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، (ان کی مدد چھوڑ دینے والوں کے عذر سے ان کو نقصان نہیں پہنچے گا)
 وہ غالب رہیں گے حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ (طبرانی)

Abu Hurayrah رضی اللہ عنہ relates that the Messenger of Allah ﷺ said, "A group of my Ummah will not cease to fight at the gates of Damascus and at the gates of Bayt al-Maqdis (Jerusalem) and its surroundings. The betrayal or desertion of whoever deserts them will not harm them in the least. They will remain victorious, until the Final Hour comes." (*Al-Tabarani*)

Masjid al-Aqsa – The Best Place of Residence

[35]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهَا تَكُونُ هَجْرَةً بَعْدَ هِجْرَةٍ فَخَيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلَزَمُهُمْ إِلَى مَهَاجِرِ إِبْرَاهِيمَ... (المستدرک)

مسجد اقصیٰ رہنے کے لئے بہترین جگہ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہجرت کے بعد ہجرت ہوتی رہے گی پس زمین کے بہترین باشندے وہ ہوں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ رہیں گے (یعنی القدس میں)۔۔۔ (المستدرک)

'Abdullah ibn 'Amr رضی اللہ عنہ reports that the Messenger of Allah ﷺ said, "There will be migration upon migration. The best of the inhabitants of the earth will reside where Prophet Ibrahim ﷺ migrated (around Bayt al-Maqdis)..."
(*Al-Mustadrak*)



[36]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ. فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ: ازْجِعْ فَعَلَّ لَهُ يَصْغُ يَدُهُ عَلَى مَنْ ثَوَّرَ فَلَهُ بِكُلِّ مَا عَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ تُمْ مَاذَا؟ قَالَ: تُمْ الْمَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ. فَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجْرٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَوْ كُنْتُ تُمْ لَأَرِثُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَيْسِ الْأَحْمَرِ. (البخاري)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اُس کو تھپڑ ماری پس وہ واپس اپنے رب کے پاس چلا گیا اور عرض کیا کہ اے اللہ تو نے مجھ ایک ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کی آنکھ درست کر دی اور فرمایا کہ واپس جا کر انہیں کہنا کہ اپنا ہاتھ ایک تیل کی کمر پر رکھیں اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک سال ملے گا۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت آئے گی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر تو ابھی موت ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مقدس سرزمین سے اتنا قریب فرمائیں جتنا ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ضرور ان کی قبر دکھاتا جو سُرخ ریت کے ٹیلے کے نیچے راستہ کے ایک جانب واقع ہے۔ (بخاری)

Abu Hurayrah رضی اللہ عنہ reports that the Prophet ﷺ said, "The angel of death was sent to Musa عليه السلام. When he came to Musa عليه السلام, Musa slapped him. The angel returned to Allah ﷻ and said, 'You have sent me to a servant who does not want to die.' Allah ﷻ ordered the angel, 'Return to him and tell him to put his hand on the back of an ox and for every hair that will come under it, he will be granted one year of life.' Musa عليه السلام asked, 'O Lord! What will happen after that?' Allah ﷻ replied, 'Then death.' Musa عليه السلام decided, 'Let it be now.' Musa عليه السلام then requested Allah ﷻ to let him die close to the Holy (Sacred) Land (near Masjid al-Aqsa) so much so that he would be at a distance of a stone's throw from it." Abu Hurayrah رضی اللہ عنہ added, the Messenger of Allah ﷺ said, "If I were there, I would show you his grave below the red sand hill on the side of the road." (Al-Bukhari)

The Conquest of Bayt al-Maqdis: Sign of the Nearness of Qiyamah

[37]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ ثُبُوكَ وَهُوَ فِي قَبَّةٍ مِنْ أَدَمَ فَقَالَ: اْعُدُّوْا سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقَتْعِاصِ الْعَنْمِ، ثُمَّ اسْتِيفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيُظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَعْلِدُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ عَايَةً، تَحْتَ كُلِّ عَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا. (البخاري)

بیت المقدس کی فتح۔ قیامت کے قرب کی نشانی

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں غزوہ تبوک کے موقع پر حاضر ہوا اُس وقت آپ ﷺ ایک چمڑے کے خیمہ میں تشریف فرما تھے، آپ ﷺ نے فرمایا قیامت سے پہلے چھ (۶) علامتوں کو شمار کر لے۔ (۱) میری وفات (۲) پھر بیت المقدس کی فتح (۳) پھر ایسا طاعون جو تمہیں خارش زدہ مکاری کی طرح پکڑ لے گا (۴) پھر مال کی اتنی فراوانی کہ ایک شخص کو سو (۱۰۰) دینار دئے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض رہے گا (۵) پھر ایسا فتنہ کہ عرب کا کوئی مکان نہیں رہے گا مگر وہ اس میں داخل ہو جائیگا (۶) پھر تمہارے اور اہل روم کے درمیان امن کا معاہدہ ہوگا پھر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ تم پر اسی (۸۰) جھنڈوں کے ساتھ حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے ساتھ بارہ ہزار (۱۳۰۰۰) کی فوج ہوگی۔ (بخاری)

‘Awf ibn Malik رضی اللہ عنہ relates, “I went to the Prophet ﷺ during the Battle of Tabuk while he was sitting in a leather tent. He said, ‘Count six signs between now and the approach of the Hour (Qiyamah/Doomsday): my death; the conquest of Bayt al-Maqdis (Jerusalem); a plague that will afflict you (and kill you in great numbers) as the plague that afflicts sheep; the increase of wealth to such an extent that even if one is given one hundred dinars he will not be satisfied; then an affliction which no Arab house will escape; and then a truce between you and Banu al-Asfar (i.e. the Byzantines) who will betray you and attack you under eighty flags. Under each flag will be twelve thousand soldiers.” (Al-Bukhari)

The Glad Tidings of the Conquest of al-Sham and Bayt al-Maqdis

[38]

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا شَدَّادُ؟ قَالَ: ضَاقَتْ بِي الدُّنْيَا. فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الشَّامَ يَفْتَحُ، وَيُفْتَحُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، فَتَكُونُ أَنْتَ وَوَلَدُكَ أئِمَّةً فِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. (الطبراني)

شام اور بیت المقدس کی فتح کی پیشگوئی

حضرت شہدہ ادین اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے اور ان کی جان پر بنی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اے شہدہ! تمہارا کیا حال ہے؟ شہدہ نے عرض کیا: دنیا مجھ پر تنگ ہو گئی ہے (میرے مرنے کا وقت قریب آ رہا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، ابھی تمہارا مرنے کا وقت نہیں آیا۔ یقیناً شام فتح ہوگا اور بیت المقدس (بھی) فتح ہوگا۔ پھر تم اور تمہارے بیٹے اس میں امام ہوں گے ان شاء اللہ۔ (طبرانی)

Shaddad ibn Aws رضی اللہ عنہ relates that he was with the Messenger of Allah ﷺ who was feeling better (on the Prophet's deathbed). The Prophet ﷺ asked, "What is wrong with you Shaddad?" Shaddad answered by saying, "The world is closing in on me." The Prophet ﷺ then said, "Do not worry, al-Sham will be conquered and Bayt al-Maqdis (Jerusalem) will be conquered and you and your sons will be imams there, if Allah wills." (Al-Tabarani)

Al-Sham - A Place Where Revelation Descended

[39]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا: أَنْزَلَتْ عَلَيَّ النَّبُوءُ فِي ثَلَاثَةِ أَمْكِنَةٍ: مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ، وَالشَّامَ. (المستدرک)

ارضِ شام۔ جی اترنے کی جگہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ پر نبوت تین جگہوں میں نازل کی گئی،

مکہ، مدینہ اور شام میں۔ (المستدرک)

Abu Umamah رضی اللہ عنہ reports that the Prophet ﷺ said, "Prophethood descended upon me in three places: Makkah, Madinah and al-Sham." (*Al-Mustadrak*)



The Virtue of Reciting Surah Bani Isra'il (al-Isra')

[40]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: مَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ. وَكَانَ يَقْرَأُ كُلَّ لَيْلَةٍ بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرِ. (أحمد)

سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے فرمایا کہ جب رسول اللہ ﷺ روزہ رکھتے تو ہم کہتے تھے اب مسلسل روزہ ہی رکھیں گے اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم خیال کرتے تھے کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے، اور آپ ﷺ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ (احمد)

'Aishah رضی اللہ عنہا related, "The Messenger of Allah ﷺ would continue fasting until we would begin to think he will not have a break. He would continue not fasting until we would begin to think he does not want to fast anymore. He would recite *Surah Bani Isra'il* and *al-Zumar* every night." (Ahmad)



CAMPAIGNING | LOBBYING | AWARENESS

Friends of Al-Aqsa is a UK based NGO campaigning for a free Palestine



www.foa.org.uk



[/foapeaceinpalestine](https://www.facebook.com/foapeaceinpalestine)









[@friendsofalaqsa](https://twitter.com/friendsofalaqsa)



[/friendsofalaqsa](https://www.instagram.com/friendsofalaqsa)

RECOMMENDED BOOKS



AVAILABLE FROM FRIENDS OF AL-AQSA
WWW.FOA.ORG.UK/SHOP

FOR FREE DISTRIBUTION

FOA FRIENDS OF
AL-AQSA
PEACE
IN PALESTINE

Friends of Al-Aqsa
P.O. Box 5127
Leicester
LE2 0WU

www.foa.org.uk